

12352 - کیا غسل کے بعد باقی ماندہ منی خارج ہونے سے دوبارہ غسل واجب ہو جاتا ہے ؟

سوال

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ جماع اور غسل کرنے کے کئی گھنٹے بعد میری منی خارج ہوتی ہے، کیا اگر ایسا ہو تو مجھے دوبارہ غسل کرنا ہو گا، یا کہ اپنے لباس سے منی دھو کر صرف وضوء ہی کافی ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

غسل جنابت کے بعد خارج ہونے والے سائل مادہ کے متعلق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

" غسل جنابت کے بعد یہ سائل مادہ نئی شہوت کے بغیر خارج ہو تو یہ اسی پہلی جنابت کا باقی ماندہ مادہ ہے، اس سے اس پر غسل واجب نہیں ہو گا، بلکہ صرف وہ اسے دھو کر وضوء کر لے "

دیکھیں: فتاویٰ ابن عثیمین ( 11 / 222 ).

اور زاد المسقن کی درج ذیل عبارت:

( اور اگر اس کے بعد خارج ہو تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا )

کی شرح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

یعنی جب اس منی کے منتقل ہونے کی بنا پر اس نے جب غسل کر لیا تو پھر ہلنے جلنے سے بعد میں منی خارج ہوئی تو وہ غسل دوبارہ نہیں کرے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ:

سبب ایک ہے، اس لیے دو غسل واجب نہیں ہوتے۔

کیونکہ جب اس کے بعد خارج ہو تو وہ بغیر لذت کے خارج ہوگی، اور جب منی بغیر لذت کے خارج ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا۔

# اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:  
شیخ محمد صالح المنجد

دیکھیں: الشرح الممتع ( 1 / 281 ).

والله اعلم .